

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شیخ الاسلام مولانا محمد امجد علی قادری صاحب مدظلہ العالی
عظیم البرکت مہارشی و دین و ملت حضرت مولانا مولوی مفتی القاری الشاہ
محمد امجد رضا خاں صاحب قدر و العزیز کے وہ خطبے جو اپنے
مواظف و مبعہ و عیب دین میں فرمایا کرتے ان سب کو مجموعہ

الخطب الرضویہ

الموعظ علی العید الجمعیہ

میں اس ذرہ بجمتہ از فقیر شوکت علی قادری رضوی غفر لہ تعج کیا
اور باقی نامہ جہاں سے مولانا مولوی حاجی محمد حسین رضا خاں صاحب قادری
خلعت اور سب حضرت مولانا مولوی حاجی محمد حسن رضا خاں صاحب
قادری برکاتی ابوالحسنی نورانی مدظلہ العالی

مطبعہ دارالافتاء بریلی

خطبة وعظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جَمْعُ الشَّاكِرِينَ، وَأَفْضَلُ
الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ،
خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، الرَّمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، قَائِدِ
النُّجَرِ الْمُجَلِّدِينَ، نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ، إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ، سَيِّدِ
الْكُونَيْنِ، وَسَيِّدِنَا فِي الدَّارَيْنِ، صَاحِبِ
قَابِ قَوْسَيْنِ، الْمُرِّيِّ بِكُلِّ مَرِيٍّ، الْمُنْزَهَةِ مِنْ كُلِّ

شَيْكِنِ جَدًّا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ نَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ عَظِيمِ
 الرَّحَاءِ عَمِيدِ الْجُودِ وَالْعَطَاءِ مَا حَمَى الذُّؤَبَ وَالْحَطَاءِ
 شَفِيعِنَا يَوْمَ الْجَزَاءِ سِرِّ اللَّهِ الْمُخْمُونِ كُدِّهِ الْجَلَّةِ
 الْمَكْنُونِ عَالِمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ نُورِ الْأَفْعَالِ
 وَالْعُيُونِ سُرُورِ الْقَلْبِ الْمُحْرَمِ سَيِّدِنَا وَ
 مَوْلَانَا وَجِيئِنَا وَنَبِينَا وَشَفِيعِنَا وَكَلِيلِنَا وَ
 كَفِيلِنَا وَعَوْنِنَا وَمُعِينِنَا وَعَوْثِنَا وَمُغِيثِنَا
 وَغِيثِنَا وَغِيَاثِنَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْبَنِيِّ
 الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى إِلِهِ الطَّيِّبِينَ
 الطَّاهِرِينَ ذَا وَجْهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ
 الْمُؤْمِنِينَ ذَا صَحَابَةِ الْمَكْرَمِينَ الْمُعْظَمِينَ فِي ابْنِهِ
 الْكَرِيمِ الْأَمِينِ الْمَلِكِينَ مُحَمَّدِي الْأَسْلَامِ وَالْحَقِّ
 وَالشَّرْعِ وَالْمِلَّةِ وَالْقُلُوبِ وَالسَّنَةِ وَالطَّرِيقَةِ

وَالذَّالِّينَ وَاهْبِ الْمُرَادِ قَطْبِ الْأَمْرِ شَادِ
 قَرْدِ الْأَكْمَرِ اِدِّ سَيِّدِ الْأَسْيَادِ مَصْلِحِ الْبِلَادِ
 نَافِعِ الْعِبَادِ دَافِعِ الْفَسَادِ مَرْجِعِ الْأَوْتَادِ نَشِ
 الثَّقَلَيْنِ وَعَيْثِ الْكُونَيْنِ وَعَيْثِ الدَّامِنِ
 وَمَعِيثِ الْمَلُونِ إِمَامِ الْفَرِيقَيْنِ سَيِّدِ نِيَّانِ وَمَوْلَانَا
 الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ
 الْجِيلَانِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى سَابِرِ أَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ
 الْكَامِلِينَ الْعَامِرِينَ وَعُلَمَاءِ مِلَّةِ الرَّاشِدِينَ
 الْمُتَشَابِهِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ يَا رَحْمَةَ
 الرَّاحِمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبة اولى جمعه

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا أَصْلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ عَلَى
الْعَالَمِينَ جَمِيعًا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لِلْمُدَّانِيَيْنِ الْمُتَلَوِّتَيْنِ الْخَطَّائِيْنَ الْهَالِكِيْنَ
شَفِيعًا فَصَلِّ اللَّهُ تَعَالَى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
وَعَلَى كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوبٌ وَمَرْضِيٌّ لِلدَّائِمَةِ صَلَاةً
تَبْقَى وَتَدُورُ وَتُزِيدُ وَامِ الْمَلَائِكَةِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا هُدَى دِينِ الْحَقِّ أَسْأَلُكَ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ بَارَكَ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ رَحِمْنَا وَرَحِمَكُمُ اللهُ تَعَالَى أُوصِيكُمْ
وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ
فَإِنَّ التَّقْوَى سَنَامُ ذُرَى الْإِيمَانِ وَادُّكْرُوا
اللهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجْرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ۝ وَاقْتَفُوا آثارَ رُسُلِنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ
أَجْمَعِينَ ۝ فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَوْامِرُ وَزَيِّتُهَا
قُلُوبِكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ

الإيمان كله إلا لا إيمان لمن لا حجة له إلا
إيمان لمن لا حجة له إلا لا إيمان لمن لا حجة
له سألنا الله تعالى وإياكم حب حبيب هذا
النبي الكريم عليه وعلى إليه الأجر الصلاة
والسليم كما يحب ربنا ويرضى وأستعملنا و
إياكم بسنته - وحيانا وإياكم على محبته وتوفانا
وإياكم على ملته - وحشرنا وإياكم في زمرة
وسقانا وإياكم من شر بيته - شرابا هديا مريئا
سائغا لا نظما بعدة أيدا أو أدخلنا وإياكم
في جنته بمنه ورحمته وكرمه ورافته فإنه هو
الرؤف الرحيم عن النبي صلى الله تعالى
عليه وسلم البر لا يبلى والذائب لا ينسى
والدائيات لا يموت ما عمل ما شئت كما قلنا

تَدَانُ - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - بَارِكْ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ
 فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ - وَنَفَعْنَا وَإِنَّا كُتُبًا بِالْآيَاتِ
 وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى مَلِكٌ كَرِيمٌ
 جَوَادٌ بَرُّ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ اقُولُ قَوْلِي هَذَا
 وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ لِي وَلكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

WWW.NAFSEISLAM.COM



خطبة ثانية

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَبَسْتِغْفِرُهُ
 وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ
 الْفَسِينَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ
 فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
 وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ بِأَلْهَدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ أَرْسَلَهُ
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
 أَجْمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ أَبَدًا - لَا سِيَّمَا عَلَىٰ
 أَوْلِيَاهُمْ بِالتَّصَدِيقِ وَأَفْضَلِهِمْ بِالتَّحْقِيقِ -
 الْمَوْلَى الْأِمَامَ الصِّدِّيقِ؛ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَ

إِمَامِ الْمَشَاهِدِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ: سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا إِمَامِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: رَضِيَ اللَّهُ
 تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى أَعْدَالِ الْأَصْحَابِ الْفَرِيقَيْنِ
 الْمُنْتَابِرِ وَالْمُحْرَابِ - الْمُؤَافِقِ رَأْيَهُ لِلْوَجْهِ وَاللِّتَابِ
 سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا إِمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَظِيمِ
 الْمُنَافِقِينَ إِمَامِ الْمَجَاهِدِينَ فِي سَرَابِ الْعَالَمِينَ
 أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
 عَنْهُ وَعَلَى جَامِعِ الْقُرْآنِ - كَامِلِ الْحَيَاءِ وَرَافِعِ
 الْإِيمَانِ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ الْعُسَيْرِيِّ فِي رَضِيَ الرَّحْمَنِ
 سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا إِمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامِ
 الْمُتَصَدِّقِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ: أَبِي عَمْرٍو وَعُثْمَانَ
 بَنِي عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَعَلَى أَسَدِ اللَّهِ
 الْغَالِبِ: إِمَامِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ: حَلَّالِ

الْمُسْكَاتِ وَالنَّوَائِبِ : دَفَاعِ الْمُعْضَلَاتِ
 وَالْمَصَائِبِ - أَخِي الرَّسُولِ : وَنَزْوَاجِ الْبَتُولِ
 سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْأَمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : وَ
 إِمَامِ الْوَاصِلِينَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ - إِلَى الْحَسَنِ
 عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ
 وَعَلَى ابْنَيْهِ الْكَرِيمَيْنِ السَّعِيدَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ
 الْقَمَرَيْنِ الْمُنِيرَيْنِ النَّيِّرَيْنِ : الشَّرَاهِرِينَ الْبَاهِرِينَ
 الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ سَيِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ
 وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَيْنِ : وَعَلَى أُمَّهِمَا سَيِّدَةِ
 النِّسَاءِ : الْبَتُولِ الشَّرَاهِرَةِ : فَلَذَلِكَ كِبَادُ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ :
 صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَى آيَتِهَا الْكَرِيمَةِ
 وَعَلَيْهَا وَعَلَى بَعْلِهَا وَابْنَيْهَا وَعَلَى عَمِّهِ الشَّرَافَيْنِ
 الْمُطَهَّرَيْنِ مِنَ الْأَذْنَابِ : سَيِّدِنَا أَبِي عِمْرَانَ

حَمْرَةَ وَأَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ وَعَلَى سَائِرِ فِرْقِ
 الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَهْلَ التَّقْوَى
 وَأَهْلَ الْمَغْفِرَةِ - اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرْنَا مِنْ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا
 وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ - وَأَخْذَلْ مَنْ خَدَلَ دِينَنَا وَسَيِّدَنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا
 وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ حِبَادًا لِلَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ
 اللَّهَ يَا مُرَبَّ الْعَدْلِ وَالْحُسَانِ قَرِيبٌ
 ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلِذَا كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى
 وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَعَزُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ

خطبہ اولی کے شروع کرنے سے پہلے امام منیر پر کھڑا ہو کر بارہا ہستہ
اللہ اکبر کہتے کہ یہی سنت ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ اولیٰ عبد القدر

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا
نَقُولُ وَخَيْرًا اِمَّا نَقُولُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ يَبْقَى رَابِنًا وَيَفْنَى كُلُّ شَيْءٍ ۝ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ لَمَا يَنْبَغِي لَجَلَالِ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَظِيْمِ
سُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَمَا حَمَدَهُ
الْاَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُوْنَ ۝ وَالْمَلٰئِكَةُ
الْمُقَرَّبُوْنَ ۝ وَعِبَادُ اللّٰهِ الصّٰلِحُوْنَ ۝ وَخَيْرًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مِنْ كُلِّ ذِيكَ لَمَّا حَمِدَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ
 الْمَكُونُ : اللَّهُ الْكَبِيرُ اللَّهُ الْكَبِيرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَإِلَهُ الْكَبِيرُ اللَّهُ الْكَبِيرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ وَ
 أَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ : وَالْكَمَلُ تَسْلِيمَاتِ اللَّهِ
 وَأَفْهَى بَرَكَاتِ اللَّهِ : وَأَزْكَى تَحِيَّاتِ اللَّهِ عَلَى
 خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ : وَسِرَاجِ أَفْقِ اللَّهِ : وَقَاسِمِ
 رِزْقِ اللَّهِ : الْمَبْعُوثِ بِتَسْبِيحِ اللَّهِ : وَ
 رَافِعِ اللَّهِ : أَمَامَ حَضْرَةِ اللَّهِ : وَزَيْرِيَّةِ
 عَرْشِ اللَّهِ وَعَرْوُوسِ مَمْلَكَةِ اللَّهِ : نَبِيِّ
 الْأَنْبِيَاءِ : عَظِيمِ الرَّجَاءِ : عَمِيمِ الْجُودِ وَ
 الْعَطَاءِ : مَا حَمَى الدُّنُوبَ وَالْخَطَاةَ : حَبِيبِ رَبِّ
 الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ الَّذِي كَانَ نَبِيًّا وَادَمَ بَيْنَ
 الْبَطْنَيْنِ وَالْمَاءِ : نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ : أَمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ :

سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ : وَسَيِّدِنَا فِي الدَّارَيْنِ : صَاحِبِ
 قَابِ قَوْسَيْنِ : الْمُرِّيَّتِ بِكُلِّ نَرِيٍّ : الْمُنَزَّهِ مِنْ
 كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ : جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ دُرَّةِ
 اللَّهِ الْمَلَكُوتِ : سِرِّ اللَّهِ الْمُخْرُوجِ : نُورِ الْأَفْرَدَةِ
 وَالْعُيُونِ : سِرِّ قَلْبِ الْمُخْرُوجِ : عَالِمِ
 مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ : سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ : خَاتَمِ
 النَّبِيِّينَ : الْأَكْرَمِ الْأَوْلِيِّ وَالْآخِرِينَ : قَائِدِ
 الْعَرِّ الْمُجَلِّينَ : مَعْدِنِ أَنْوَارِ اللَّهِ : وَفَخْرِنِ
 أَسْرَارِ اللَّهِ : وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ اللَّهُ : وَ
 مَوَائِدِ نِعْمَةِ اللَّهِ : نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا
 وَمَوْلَانَا وَغَوْثِنَا وَغَيْثِنَا وَغِيَاثِنَا وَمُغِيثِنَا وَ
 عَوْنِنَا وَمُعِينِنَا وَوَكِيلِنَا وَكَفِيلِنَا سَيِّدِنَا وَ
 مَوْلَانَا وَمَلْجَأِنَا وَمَأْوَانَنَا عَمَّيْ سُرُّوْلِي سَرِّ

الْعَالَمِينَ ۖ وَعَلَىٰ إِلَهِ الطَّيِّبِينَ ۖ وَأَصْحَابِهِ
 الطَّاهِرِينَ ۖ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أَهْمَاتِ
 الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَعِزَّتِهِ الْمَكْرَمِينَ الْمُعْظَمِينَ ۖ وَ
 أَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ الْكَامِلِينَ الْعَارِفِينَ ۖ وَعُلَمَاءِ
 أُمَّتِهِ الرَّاشِدِينَ الْمُرْتَدِينَ ۖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ
 وَبِهِمْ وَلَهُمْ وَفِيهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۖ
 اللَّهُ الْبَرُّ اللَّهُ الْبَرُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْبَرُّ
 اللَّهُ الْبَرُّ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْهَاءُ وَاحِدًا
 أَحَدًا صَمَدًا أَفْرَدًا وَتَرَاخِيًا قِيَوْمًا مَلِكًا جَبَلًا
 لِلذُّؤْبِ غَفَّارًا ۖ وَلِلْعِيُوبِ سَنَارًا ۖ شَهَادَةٌ
 يُحْيِي بِهَا وَجْهَ الرَّحْمَنِ ۖ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۖ أَرْسَلَهُ

بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ تَهْتِكًا ۗ شَهَادَةٌ نَّتَّقِي بِهَا انْشَاءً
 اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَ النَّيِّرَانِ ۗ وَنَدَا خَلُوهَا مَعَ الرَّجُلِ
 الْأَوَّلِ دَارَ الْجَنَّةِ ۗ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ لِلَّهِ الْحَمْدُ
 أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ رَحِمْنَا وَرَحِمَكُمُ
 اللَّهُ ۗ اذْكُرُوا أَنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ ۗ يَوْمٌ
 يَتَجَلَّىٰ فِيهِ رَبُّكُمْ بِاسْمِهِ الْكَرِيمِ ۗ وَيَغْفِرُ فِيهِ
 لِلصَّالِحِينَ ۗ إِلَّا لِلصَّالِحِينَ فَرَحَاتَانِ ۗ فَرَحَةٌ
 عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَنِ
 الْأَوَّلِ فِي الْجَنَّةِ ۗ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ
 إِلَّا الصَّالِحُونَ ۗ لَوْجَةٌ الْكَرِيمِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ
 اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ

الْكِبْرُ اللَّهُ الْكِبْرُ وَبِئْسَ الْحَمْدُ ۖ إِلَّا وَرَاتُكُمْ
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَدْ أُوجِبَ
 عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ عَلَى كُلِّ مَنْ يَمْلِكُ النَّصْلَ
 فَاضْلَاعِينَ الْحَاجَّةِ الْأَصْلِيَّةِ ۖ عَنْ نَفْسِهِ
 وَعَنْ صِغَائِرِ الدَّرِّيَّةِ ۖ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ
 شَعِيرٍ أَوْ نَصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ زَبْدٍ
 إِلَّا وَرَاتُهَا لَطَهْرَةٌ لِصِيَامِكُمْ عَنِ اللُّغْوِ وَ
 الرَّفَثِ وَرَاتُ الصِّيَامِ مُعَلَّقَةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ
 الْأَرْضِ ۖ حَتَّى تُوَدَّى هَذِهِ الصَّدَقَةُ فَادُّ
 طَيِّبَةً رِيحًا أَنْفُسَكُمْ تَقْبَلُهَا اللَّهُ وَالصِّيَامُ مِنَّا
 وَمِنْكُمْ وَمِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ۖ اللَّهُ الْكِبْرُ اللَّهُ
 الْكِبْرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْكِبْرُ اللَّهُ الْكِبْرُ
 وَبِئْسَ الْحَمْدُ ۖ إِلَّا وَرَاتُكُمْ فَرَضَ فَرَضُ

فَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا هَا
 إِلَّا وَإِنَّ بَيْنَكُمْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ
 سَنَ لَكُمْ سُنَنَ الْهُدَى فَاَسْكُلُوا هَا اللَّهُ الْكَبِيرُ
 اللَّهُ الْكَبِيرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْكَبِيرُ اللَّهُ الْكَبِيرُ
 وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ ۝ أَمَا بَعْدُ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
 رَاحِمَنَا وَرَاحِمَةَ اللَّهِ أَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي
 بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ
 فَإِنَّ التَّقْوَى سَنَامُ ذُرَى الْإِيمَانِ ۝ وَذَكَرُوا
 اللَّهُ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجْرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَأَنَّ اللَّهَ لَعَالِي السَّمَاوَاتِ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ فَلَتَقْفُوا أُنثَارَ سُنَنِ سَيِّدِ
 الْمُرْسَلِينَ ۝ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ
 وَبِهِمَا جَهَّ جَيْتٌ فَإِنَّ السَّانِ هِيَ الْأَنْوَارُ

وَزَيْنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ
 وَعَلَى آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَإِنَّ الْحُبَّ
 هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَّا الْإِيمَانَ لِمَنْ لَا حُبَّةَ لَهُ إِلَّا
 لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حُبَّةَ لَهُ إِلَّا الْإِيمَانَ لِمَنْ لَا حُبَّةَ
 لَهُ مَرَزَقْنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمْ حُبَّ حَبِيبِهِ هَذَا
 النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْكِرَامِ الصَّلَاةُ
 وَالسَّلَامُ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى وَأَسْتَعْمَلْنَا
 وَإِيَّاكُمْ بِسُنَّتِهِ وَحَيَانَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى حُبِّهِ وَ
 تَوْفَانَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى مِلَّتِهِ وَحَشَرْنَا وَإِيَّاكُمْ
 فِي مَرْصُوقِهِ وَسَفَّانَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ
 شَرِّ بَيْتٍ شَرَّ أَبَاهُنِي صَرِيحًا
 سَائِعًا لَا نَظْمًا بَعْدَهُ أَبَدًا وَأَدْخَلْنَا
 وَإِيَّاكُمْ فِي جَنَّتِهِ بِمَنِّهِ وَرَحْمَتِهِ

وَسَاءَ فَتْنًا إِنَّهُ هُوَ الرَّؤُفُ الرَّحِيمُ اللَّهُ
 أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَلِلُّ الْحَمْدُ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ
 لَا يَجِيءُ وَالِدٌ نَبٌ لَا يُنْسَى وَالِدَاتٌ لَا يَمُوتُ
 أَعْمَلُ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تَدَانُ أَعُوذُ
 بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
 ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 شَرًّا يَرَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ
 وَنَفَعَنَا قِيَامًا كُمْ بِآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
 اللَّهُ تَعَالَى مَلِكٌ كَرِيمٌ جَوَادٌ بَدِئُ الرَّؤُفِ الرَّحِيمِ

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَ
 لِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ
 وَالْمُسْلِمَاتِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ هُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
 أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ



نَفْسِ اسْلَامِ

WWW.NAFSEISLAM.COM

خطبہ ثانیہ کے شروع کرنے سے پہلے، بارہ اور تہتم پر ۱۳ بار امام شہید کھڑے
کھڑے اللہ اکبر آہستہ کہے یہی سنت ہے۔

خطبہ ثانیہ برائے عید الفطر وعید الفصحی

الْحَمْدُ لِلَّهِ لِحَمْدِهِ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَأُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِاللَّهِ
مِنْ شَرِّهِ وَالْفُجْيَاءِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يَهْلِكُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ
فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِأَهْلِي
وَرِثَتِهِ الْحَقِّ أَرْسَلَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارَكَ

وَسَلَّمًا أَبَدًا لَا يَمِيمًا عَلَى أَوْلِيهِمْ بِالتَّصَدِيقِ
 وَأَفْضَلِهِمْ بِالتَّحْقِيقِ؛ الْمَوْلَى الْإِمَامَ الصِّدِّيقَ
 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَإِمَامَ الْمُتَشَاهِدِينَ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْإِمَامَ أَبِي بَكْرٍ
 الصِّدِّيقِ؛ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى أَهْلِ
 الْأَصْحَابِ؛ مُزَيْنِ الْمَثَرِ وَالْمَحْرَابِ؛ الْمُوَافِقِ رَأْيَهُ
 لِوَحْيِ وَالْكِتَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْإِمَامَ
 الْمُؤْمِنِينَ؛ وَغَيْظِ الْمُنَافِقِينَ؛ إِمَامِ الْمَجَاهِدِينَ
 فِي رَأْيِ الْعَالَمِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَعَلَى جَامِعِ الْقُرَّانِ
 كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ؛ مُجَهِّزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ
 فِي رَضَى الرَّحْمَنِ؛ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْإِمَامِ
 أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَإِمَامِ الْمُتَّصِلِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

اَبِي عَمْرٍو وَعُمَرَانِ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
 وَعَلَى أَسَدِ اللهِ الْغَالِبِ إِمَامِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ
 خَلَّالِ الْمَشْكَالَاتِ وَالنَّوَابِغِ دَفَاعِ الْمُعْضَلَاتِ
 وَالْمَصَائِبِ أَخِي الرَّسُولِ وَنَزْوِجِ الْبَتُولِ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا الْإِمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامِ الْوَالِدِينَ
 إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
 كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ وَعَلَى ابْنَيْهِ
 الْكَرِيمَيْنِ السَّعِيدَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ الْقَمَرَيْنِ
 الْمُنِيرَيْنِ النَّيِّرَيْنِ الزَّاهِرَيْنِ الْبَاهِرَيْنِ الطَّيِّبَيْنِ
 الطَّاهِرَيْنِ سَيِّدَانَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ
 الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَعَلَى أُجْمَعِ سَيِّدَةِ
 النِّسَاءِ الْبَتُولِ الرَّهَاءِ فَلَذَّةِ كَيْدِ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ
 صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَى أَيْدِيهَا الْكَرِيمِ وَعَلَيْهَا

وَعَلَى بَعْلِهَا وَابْنَيْهَا وَعَلَى عَمِيَّتِهِ الشَّرِيفَاتِ الْبَطْنِيَّاتِ
 مِنَ الْأَدْنَابِ بِسَيِّدِنَا أَبِي عُمَارَةَ حَمْرَةَ وَأَبِي
 الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بِرَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَعَلَى
 سَائِرِ قَرَبَاتِنَا الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ بِوَعَالِيْنَا
 مَعَهُمْ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَاهْلَ الْمَغْفِرَةِ
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَلِيهِ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَدِينِ
 سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ
 عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
 رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاجْعَلْ مَنْ خَدَاكَ
 دِينِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
 رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِلَهُهُ

الْحَمْدُ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

يَا مُرَبِّ الْعَدْلِ وَالْأَحْسَانِ وَإِيْتَاءُ

ذِي الْقُرْبَىٰ وَيُنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُعْظِمُ لِعِبَادِهِ

تَذَكُّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ

تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ وَأَجَلٌ

وَأَعْرَبُ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ

وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ

خطبة اولى براعميد اضحى

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا الشَّاكِرِينَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا
 نَقُولُ وَخَيْرًا إِصْمًا نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَبْقَى سَرِيًّا وَيَفْنَى كُلَّ شَيْءٍ : الْحَمْدُ
 لِلَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ رَجْهِهِ الْكَرِيمِ : وَعَظِيمِ
 سُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ : وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا حَمِدَهُ الْأَنْبِيَاءُ
 وَالْمُرْسَلُونَ : وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ : وَعِبَادُ اللَّهِ
 الصَّالِحُونَ : وَخَيْرًا مِنْ كُلِّ ذِي لِكِّ كَمَا حَمِدَ لِنَفْسِهِ
 فِي كِتَابِهِ الْمَلَكُونَ : اللَّهُ الْبَرُّ اللَّهُ الْكَبِيرُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْبَرُّ اللَّهُ الْكَبِيرُ اللَّهُ الْبَرُّ وَاللَّهُ أَحْفَظُ

صَلَوَاتِ اللَّهِ ط وَكَامِلِ تَسْلِيمَاتِ اللَّهِ ط وَوَأَمْرِ
 بَرَكَاتِ اللَّهِ ط وَأَنْزَلِي تَحِيَّاتِ اللَّهِ ط عَلَى خَيْرِ خَلْقٍ
 اللَّهُ ط وَسِرَاجِ أَفْقِ اللَّهِ ط وَقَاسِمِ مِرْتِ اللَّهِ ط
 الْمُبْعُوثِ بِتَيْسِيرِ اللَّهِ ط وَرِفْقِ اللَّهِ ط إِفَاقِ حَضْرَةِ
 اللَّهِ ط وَزَيْمَةِ عَرْشِ اللَّهِ ط وَعَرْدِ سِ مَلَكَةِ
 اللَّهِ ط نَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ عَظِيمِ الرَّجَاءِ عَمِيمِ الْجُودِ
 وَالْعَطَاءِ صَاحِي الدُّوَابِ وَالنَّظَائِرِ جَيْبِ رَبِّ الْأَنْفِ
 وَالسَّمَاءِ ط الَّذِي كَانَ نَبِيًّا وَآدَمِيًّا بَيْنَ الطَّيْسِ وَالْمَاءِ
 نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ سَيِّدِ الْكُونَيْنِ
 وَسَيِّدِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ
 الْمَزِينِ بِكُلِّ نَرَيْنِ الْمُنْزَهِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ جَدِّ
 الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ط دُرِّ اللَّهِ الْمَسْكُونِ ط سِرِّ اللَّهِ
 الْمَخْرُوجِ ط نُورِ الْأَنْفَادَةِ وَالْعِيُونِ ط سُرُورِ الْقَلْبِ

الْمُحْزُونِ ۖ عَالِمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ۖ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ۖ أَلَمْرَامِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ ۖ قَائِدِ
 الْغُرِّ الْمَجْلِيِّينَ ۖ مَعْدِنِ آوَارِ اللَّهِ ۖ وَخَزَائِنِ أَسْرَارِ اللَّهِ
 وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ۖ اللَّهُ ۖ وَمَوَائِدِ نِعْمَتِهِ ۖ اللَّهُ ۖ
 نَبِيَّنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَلِيكِنَا وَغَوْثِنَا وَغَلِيثِنَا
 وَغِيَاثِنَا وَمُعِيثِنَا وَعَوْنِنَا وَمُعِينِنَا وَوَكِيلِنَا وَكَفِيلِنَا
 سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَأِنَا وَمَأْوَانَا مُحَمَّدٍ ۖ سَوْوَلِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ وَعَلَى إِلِهِ الطَّيِّبِينَ ۖ وَأَصْحَابِهِ
 الطَّاهِرِينَ ۖ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ ۖ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
 وَعِزَّتِهِ ۖ الْمَلَكْرَمِينَ الْمُعْظَمِينَ ۖ وَأَوْلِيَاءِ عِمْلَتِهِ
 الْكَامِلِينَ الْعَارِفِينَ ۖ وَعُلَمَاءِ أُمَّتِهِ ۖ الرَّاشِدِينَ
 الْمُرْشِدِينَ ۖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَبِهِمْ وَلَهُمْ وَفِيهِمْ
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۖ اللَّهُ ۖ الْكَبِيرُ اللَّهُ ۖ الْكَبِيرُ اللَّهُ

اَلَا اِلَهَ وَاِلَهٌ اَكْبَرُ اِنَّ اِلَهَ الْاَكْبَرِ وَاِلَهَ الْحَمْدِ
 وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اِلَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 اِلَهًا وَاَحَدًا اَحَدًا اَصَمَدًا قَرَدًا وَاَحْيَا قَيُّوْمًا
 مَلِكًا جَبَّارًا اِلَهُ الَّذِي نُوْبُ غَفَّارًا وَاَللَّعِيُوْبِ سَتَّارًا
 شَهَادَةَ اَلْحَقِّ بِهَا وَجَلَّ الرَّحْمٰنُ وَاَشْهَدُ اَنَّ
 سَيِّدَنَا وَاَمْرًا لَنَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَاَمْرًا سُوْلَةً اَرْسَلَهُ
 بِاِحْمَدٍ وَاَلْحَقِّ لِيُطَهِّرَهُ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَاَلْحَقِّ
 كَفٰى بِاِلَهٍ شَهِيدًا اَللَّهُ شَهَادَةَ تَتَّقِيْ بِهَا اِنْ شَاءَ
 اَللَّهُ تَعَالٰى مِنَ النَّيْرٰنِ وَاَنْتَ اَدْخُلُ بِهَا مَعَ الرَّجُلِ
 الْاَوَّلِ دَارَ الْجَنٰتِ اِنَّ اِلَهَ الْاَكْبَرِ اِلَهُ الْاَبْرٰهِيْمَ
 اَلَا اِلَهَ وَاِلَهٌ اَكْبَرُ اِلَهُ الْاَبْرٰهِيْمَ اِلَهُ الْحَمْدِ اَمَّا بَعْدُ
 فَمَا اَيْتُهَا الْمُؤْمِنُوْنَ رَحِمْنَا وَاَرْحَمْنَا اِنَّ اِلَهَ تَعَالٰى اَعْلَمُ
 اَنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا اَيُّوْمٌ عَظِيْمٌ قَالَ شَفِيعُ الْمُدْنِيَيْنِ


رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَمِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِمْ أَحَبُّ إِلَى
 اللهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ وَقَالَ مَا عَمِلَ
 ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّخْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِطْرَاقِ
 الدَّمِ وَأَنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوفِهَا وَأَشْعَارِهَا
 وَأَطْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِمَكَانٍ قَبْلَ
 أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَيَطْبِئُ بِهَا نَفْسًا اللهُ أَكْبَرُ
 اللهُ أَكْبَرُ اللهُ إِلَّا اللهُ وَإِنَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
 اللهُ الْحَمْدُ إِلَّا فَإِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ مَنْ يَمْلِكُ النَّصَابَ فَاضِلًا
 عَنْ حَوَاجِبِهِ الْأَصْلِيَّةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَنْ يَكْفُرَ الْأُضْحِيَّةَ
 وَرَقَّتْهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْبَيْتِ الْأَرْضِيِّ لِلْبَيْتِ
 وَلِلْأَعْرَابِيِّ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ هَذَا الْيَوْمِ فَحَسِّنُوا الْأُضْحِيَّةَ

وَلَا تَذْبَحُوا عُرْجَاءَ وَلَا عَوْرَاءَ وَلَا عَجْفَاءَ وَلَا
 مَقْطُوعَةَ الْأُذُنِ وَلَا يَوْاحِدَةَ فَإِنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسِّنُوا ضَمَائِكُمْ
 فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ فَمَنْ دُلَّ لِوَاحِدٍ مِّنْكُمْ
 شَاءَ سَوَاءٌ كَانَتْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ سَبَّحَ الْبَقَرَاتِ
 أَوْ الْأَبِلِ وَكَبَّرُوا وَعَقِيبَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ
 مِنْ فَجْرِ الْعَرَفَةِ إِلَى عَصْرِ الْخَيْرِ أَيَّامِ الشَّهْرِ
 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
 الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ
 مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ
 الْآيَاتِ رَبِّكُمْ فَرَضَ فَرَاغِضْ فَلَا تَتْرَكُوها وَحَرَّمَ
 حُرْمَاتٍ فَلَا تَنْهَلُوها إِلَّا ذِكْرَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَ لَكُمْ سُنَنَ الْهُدَى فَاسْلُكُوها وَاللَّهُ
 أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ أَمَا بَعْدُ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ رَحِمْنَا وَ
 رَحِمَكُمْ اللَّهُ وَأَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ حَسْرَةً
 جَلَّ فِي السِّرِّ وَالْأَعْلَانِ فَإِنَّ التَّقْوَى سَنَامُ ذِمَّتِي
 الْإِيمَانِ ذَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرَةٍ وَ
 حَجْرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنَّ
 اللَّهَ يَبْسُتُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَاقْتَفُوا آثارَ
 سُنَنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ
 عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا أَجْمَعِينَ فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَفْئِدَةُ
 وَتَرَاتِيمُ قُلُوبِكُمْ يُحِبُّ هَذَا النَّبِيَّ الْكَرِيمَ عَلَيْهِ
 وَعَلَى آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ فَإِنَّ الْحُبَّ
 هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَّا الْإِيمَانَ لِمَنْ لَا حُبَّ لَهُ إِلَّا الْإِيمَانُ

لِمَنْ لَا حَبَّةَ لَهُ إِلَّا لِإِيمَانٍ مِنْ لَأَحَبَّةَ لَكَ
 سَأَرَفْنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمْ حُبَّ حَبِيبِهِ هَذَا النَّبِيُّ
 الْكَرِيمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْكِرَامُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى وَأَسْتَعْمَلْنَا وَإِيَّاكُمْ حَسْبَتِهِ
 وَحَيَانَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى حَبَّتِهِ وَتَوَفَّانَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى مِلَّتِهِ
 وَحَسْرَانَا وَإِيَّاكُمْ فِي زُمرَتِهِ وَسَقَانَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ
 شَرَابَتِهِ شَرَابًا هَنِيئًا فَرِيًّا سَائِغًا لَا نَطْمَأُنُّ بَعْدَ
 آيَاتِهِ وَأَدْخَلْنَا وَإِيَّاكُمْ فِي جَنَّتِهِ مِنْ مَنِّهِ وَ
 رَحْمَتِهِ وَكَرَمِهِ وَرَأْفَتِهِ إِنَّهُ هُوَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ
 اللَّهُ الْبَرُّ اللَّهُ الْبَرُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْبَرُّ
 اللَّهُ الْبَرُّ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْكَالِ بِبُيُوتِ وَالِدَيْكَ لَا
 يَكْفِي وَالِدَيْكَ أَنْ لَا يَمُوتَا بِأَعْمَلِكُمْ مَا شِئْتُمْ كَمَا

تَدْرِيْنَ تَدَانِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ لَءَا وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ نَجْمَةٍ شَرًّا يَرَهُ لَءَا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَلَفَعْنَا
قُرْآنًا كَرِيْمًا بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اِنَّهٗ تَعَالَىٰ مَلِكٌ
كَرِيْمٌ جَوَادٌ بَرُّوْا رَبَّكُمْ رَجِيْمًا اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا
وَاسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ




خطبہ کے ضروری احکام

مسئلہ خطبہ جمعہ میں شرط یہ ہے کہ وقت میں ہو اور نماز سے پہلے اور ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعہ کے لیے شرط ہے یعنی کم سے کم خطیب کے سوا تین مرد اور اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سُن سکیں اگر کوئی امر مانع نہ ہو تو اگر نذوال سے پیشتر خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھا یا تنہا پڑھا یا عورتوں بچوں کے سامنے پڑھا تو ان سب صورتوں میں جمعہ نہ ہو اور اگر بہروں یا سونے والوں کے سامنے پڑھا یا حاضرین دور ہیں کہ سنتے نہیں یا مسافر یا بیماروں کے سامنے پڑھا جو قابل بالغ مرد ہیں تو ہو جائیگا (در مختار رد المحتار) مسئلہ خطبہ ذکر الہی کا نام ہو اگرچہ صرف ایک بار الحمد للہ یا سبحن اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا اسی قدر سے فرض ادا ہو گیا مگر اتنے ہی پر اکتفا کرنا مکروہ ہے (در مختار وغیرہ) مسئلہ چھینک آئی اور اس پر الحمد للہ کہا یا تعجب کے طور پر سبحن اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا تو فرض خطبہ ادا نہ ہوا (علیگری) مسئلہ خطبہ و نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو وہ خطبہ کافی نہیں (در مختار) مسئلہ سنت یہ ہے کہ دو خطبے پڑھے جائیں اور بڑے بڑے نہ ہوں اگر دونوں مگر حوال مفصل سے بڑھے جائیں تو مکروہ ہے خصوصاً جاڑوں میں (در مختار عنین) مسئلہ خطبہ میں یہ چیزیں سنت ہیں خطیب کا پاک ہونا کھڑا ہونا خطبہ جمعے سے پہلے خطیب کا بیٹھنا خطیب کو ممبر پر ہونا اور سامعین کی طرف موٹھ اور قبلہ کو پیٹھ کرنا اور بہتر یہ ہے کہ ممبر محراب کی بائیں جانب ہو حاضرین کا متوجہ بہ امام ہونا خطبہ سے پہلے اعوذ بیا للہ آہستہ پڑھنا اتنی بلند آواز سے

خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں اللہ سے شروع کرنا۔ اللہ عزوجل کی ثنا کرنا اللہ عزوجل کی قدرت
 اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا حضور پرورد
 بھیجنا کم سے کم ایک آیت کی تلاوت کرنا پہلے خطبہ میں وعظ و نصیحت ہونا دوسرے
 میں حمد و ثنا و شہادت و درود کا اعادہ کرنا دوسرے میں مسلمانوں کے لیے دعا
 کرنا دونوں خطبے ہلکے ہونا دونوں کے درمیان بقدر زمین آیت پڑھنے کے بیٹھنا مستحب
 یہ ہے کہ دوسرے خطبہ میں آوارہ نسبت پہلے کے پشت ہو اور خلفائے راشدین و عین
 کمزین حضرت حمزہ و حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہو بہتر یہ ہے کہ دوسرا خطبہ
 اس سے شروع کریں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مُحَمَّدًا وَّلَسْتَ حِلْمًا وَّلَسْتَ خَفِیْرًا وَّلَوْعَ مِنْ مِّنْ
 وَتَوَكَّلْ عَلَیْہِ وَاَعُوْذْ بِاللّٰہِ مِنْ شَرِّ اَلْفِیْسِیْنَا وَاَمِنْ سَبَیَاتِ اَعْمَالِنَا
 مَن یَّحْدِیْ اِلَیْہِ فَلَہٗ مُضَلٌّ کَذَّ وَاَمِنْ یُضِلُّہٗ فَلَہٗ اَدِیْ کَذَّ۔ مرد اگر امام کے
 سامنے ہو تو امام کی طرف موٹھ کرے اور دہنے بائیں ہو تو امام کی طرف مڑ جائے اور امام
 سے قریب ہونا افضل ہے مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں
 پھلائے البتہ اگر امام ابھی خطبہ کو نہیں گیا ہو اور آگے جگہ باقی ہو تو آگے جا سکتا ہے اور
 خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے خطبہ سننے کی
 حالت میں دوڑا نو بیٹھ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں (علی گیری در مختار ضمیمہ وغیرہ) مسئلہ
 بادشاہ اسلام کی ایسی تعریف جو اس میں نہ ہو حرام ہے مثلاً مالک رقاب الامم کہ محض
 جھوٹ اور حرام ہے (در مختار) مسئلہ خطبہ میں آیت پڑھنا یا دونوں خطبوں کے درمیان
 جلسہ نہ کرنا یا اشعارے شاعر میں کلام کرنا کہ وہ ہے البتہ اگر خطیب نے نیک بات کا حکم

کیا یا برسی بات سے منع کیا تو اسے اس کی مانعت نہیں (علمگیری) مسئلہ غیر
 عربی میں خطیب پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان خطیب میں غلط کرنا خلاف سنت
 متواتر ہے کیونکہ خطیب میں اشعار پڑھنا بھی نہ چاہیے اگرچہ عربی ہی کے ہوں ہاں
 دو ایک شعر عربی ہند و نصالح کے اگر پڑھ دیے تو حرج نہیں۔



تاریخ ولادت اعلیٰ حضرت قدس سرہ

مستخرجہ حضور پر نور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ

أَدْلِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ أَلَا يُمَانٌ دَائِدَهُمْ

بِرُوحٍ مِّنْهُ

۱۲

۶۲

یہ ہیں جنکے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے انکی مدد کی

تاریخ وصال اعلیٰ حضرت قدس سرہ

جو حضور پر نور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے چار ماہ ایس روز قبل متخرج فرمایا
 وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءٍ مِّنْ فَضِيلَةِ الْوَالِدِ (ترجمہ)

۱۳

۶۳

۶۳

اہل جنت میں چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔

یہ حضور پر نور علیہ حضرت کی ایک ایسی بیانی ہو

نہایت

نہایت حسین نہایت
نہایت زوی

نہایت باک نہایت
نہایت دروے

نہایت خموش
نہایت کرم
نہایت کتبے و دوات و تلمی

جس ان کی پاک سواخ کا پتہ چلتا ہے

ملنے کا پتہ ہے سید ایوب علیہ صفا قادی ضوی محلہ سوداگران بریلی